

Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expression:

درویش اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اُسے دنیاوی آسائشوں کی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ ان کی پروا نہیں کرتا۔ وہ زندگی کو ایک امتحان سمجھتا ہے۔ اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کامیابی صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ اُس کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ نیکی کی طرف راغب رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے۔ درویش ہماری محبت کا طلب گار رہتا ہے۔

Mystic loves Allah. He has no desirise for worldly pleasures. Therefore, he doesnot care for them.
He considers life a test, and always pray to Allah

for success in it. He is aware that only Allah gives success. His heart always remain busy in remembrance of Allah. Owing to it, he always remains inclined towards goodness.

The remembrance of God provides peace to heart. A mystic is a needy of our love.